

27 نومبر 2018

سردیوں میں موسم سے نمٹنے کے لیے برامپٹن میں ہونے والے اقدامات کے حوالے سے آپ کے لیے ضروری مفید معلومات

برامپٹن، آن - یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ برامپٹن میں موسم سرما ہمارے لیے خوب برف اور شدید ٹھنڈ لے کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ چونکہ بعض اوقات سردیوں کا موسم توقع سے پہلے ہی نمودار ہو جاتا ہے، لہذا شہر اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس موسم سرما کے حوالے سے آپ کے لیے مفید معلومات درج ذیل ہیں۔

برف باری کی صورت میں سٹی انتظامیہ کیا کرتی ہے؟

جب برامپٹن میں برف باری ہو رہی ہو، تو مرکزی شاہراہوں پر نمک پاشی اور ہل چلانا شہری انتظامیہ کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ یہ وہ مرکزی شاہراہیں ہیں جن پر ٹریفک کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے اور یہ برامپٹن ٹرانزٹ/زوم کے روٹ پر یا پبل کے مذہبی یا سرکاری اسکولوں کی آمدورفت میں آتی ہیں۔ ان سڑکوں پر نمک پاشی کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان پر مسلسل ہل چلایا جاتا ہے۔

جب بنیادی سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں، تو عملہ رہائشی علاقوں کی سڑکوں پر نمک چھڑکنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ محلوں کی سڑکیں ہوتی ہیں اور ان پر ٹریفک کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔

رہائشیوں علاقوں کی سڑکوں پر ہل چلانے کے کام کے وقت دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں:

- ان سڑکوں پر صرف اسی صورت میں ہل چلایا جاتا ہے جب ان پر ایک ہی بار میں کم از کم 7.5 سینٹی میٹر (3 انچ) برف پڑے۔ اس کا سائز باکی کی ٹکر یا کرکٹ بال سے معمولی بڑا ہوتا ہے۔
- بڑی سڑکوں کی طرح ان کو پکٹنڈیوں تک صاف نہیں کیا جاتا۔ سڑکوں کو صاف کیے جانے کے بعد بھی زمین پر کچھ برف باقی رہ جانا معمول کی بات ہے۔

سٹی پارکس اور درج ذیل قسم کی سائیڈ واکس کو بھی صاف کرتا ہے اور ریت ڈالتا ہے:

- مرکزی شاہراہ کے ساتھ
- برامپٹن ٹرانزٹ/زوم روٹ کے ساتھ
- کسی سٹی پارک یا سہولت گاہ کے سامنے
- آپ کی جائیداد کے پیچھے
- سڑک کے ساتھ جڑی ہوئی (سائیڈ واک اور سڑک کے درمیان گھاس والی بولورڈ نہ ہو)

دیگر تمام سائیڈ واکس جائیداد کے مالکان کی ذمہ داری ہیں۔

عملے کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام سڑکیں، سائیڈ واکس اور تفریحی راستے برفباری کے ختم ہونے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر بحال کر دیے جائیں، تاہم موسم کے حالات شدید ہونے کی صورت میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ صبر کرنے پر ہم تمام شہریوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

آپ فرق پیدا کر سکتے ہیں!

- برفباری کے بعد اگلے دن صبح 11 بجے تک اپنے گھر کے سامنے اور ساتھ کی سائیڈ واک کو صاف کر دیں۔
- اپنی پراپرٹی سے برف کو ہٹا کر سڑک یا سائیڈ واک پر نہ پھینکیں۔
- کچرا جمع کرنے کے دن، اپنے ڈرائیو وے کے اختتام پر یا سڑک کے کنارے سے پیچھے بولورڈ پر اپنی کارٹس کے لیے جگہ خالی کریں۔ انہیں سائیڈ واک یا سڑک پر مت رکھیں۔
- جب برفباری ہو، تو سڑک پر نمک چھڑکے جانے یا صفائی کیے جانے سے پہلے گاڑی کھڑی نہ کریں۔ جب سڑک پر گاڑیاں کھڑی ہوں، تو عملہ درست طریقے سے سڑک کی صفائی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں - اگر کسی سڑک سے برف ہٹانے والی مشین نہ گزر سکتی ہو، تو ایک فائر ٹرک بھی نہیں گزر سکے گا۔

مربوط رہیں

- سردیوں کے متعلق مزید معلومات، بشمول 24/7 برف کو ہٹانے کی صورتحال کے بارے میں خبروں کے لیے www.brampton.ca/snow ملاحظہ کریں
- ہنگامی منصوبہ تیار کرنے، اپنے گھر اور گاڑی کے لیے ہنگامی کٹس بنانے اور بیلچے سے برف ہٹاتے ہوئے محفوظ رہنے کے بارے میں مشوروں کے لیے www.brampton.ca/prepared ملاحظہ کریں۔
- ٹوئٹر پر [@CityBrampton](https://twitter.com/CityBrampton) کو فالو کریں اور فیس بک پر [سٹی آف برامپٹن](https://www.facebook.com/CityBrampton) کو لائیک کریں

اقتباس

"چاہے آپ سے اسکیٹنگ کرنے کے لیے انتظار نہیں ہوتا یا آپ کسی ساحل سمندر پر جانا چاہتے ہیں، تو وہ موسم آ گیا ہے۔ مطمئن رہیں، سٹی تیار ہے۔ تمام آلات کسی بھی وقت کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور نمک جمع کر لیا گیا ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ بھی تیار ہوں۔ اس موسم سرما کو محفوظ اور لطف اندوز بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔"

- میئر لنڈا جیفری

"آیا یہ برامپٹن میں آپ کی پہلی سردیاں ہوں یا آپ اپنی پوری زندگی یہاں رہے ہوں، برف ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کی ہے، کہ ہم تیار رہیں اور ہمارے پاس عمل درآمد کا پورا منصوبہ موجود ہو۔ ایسا دیگر کوئی بھی مسلسل موقع نہیں ہوتا، جس کے لیے سٹی کی جانب سے اتنے بڑے ہم آہنگی والے ردعمل کی ضرورت ہوتی ہو۔ برف ہونے کی صورت میں سینکڑوں ملازمین سرگرم عمل ہوتے ہیں، جن میں آپ کو نظر آنے والے برف ہٹانے کے عملے سے لے کر 311 کے کسٹمر سروس ایسوسی ایشن تک شامل ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کہ برامپٹن کے شہری ان سردیوں میں حفاظت سے سفر کر سکیں۔"

- بروس ونیگا، کمشنر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca